

آزاد نظم

,Poetry - ریزہ خنُ س - Snippets



rki.news

میں ہوں ہندوستان
میں ہوں ہندوستان
ہر مذہب کے لوگ یہاں
میں اس لئے مہان

پہلے لوٹا غیروں نے
اب لوٹ رہے ہیں اپنا

مفلس کے بھی یہ ہاں
بیچ رہے ہیں سپنہ
میری گود میں رہ کر
یہ ایسے گل کھلائے
ان کو شرم نہ آئے
شیطان بھی شرما جائے
کئی گنا نہ ہیں کرتے
ماں کے سامنے اپنی
اوپر میری زمیں کے
سارے گناہ کر جائے
اور اس کو پھر ماں کے
میں بہت حیران
میں ہوں ہندوستان
میں ہوں ہندوستان

مندر، مسجد، گرو دوار
میری گود میں ہیں سارے
جب بھید نہ ہیں میں رکھتا ہوں
تم کیوں رکھتے ہو پیار
ذات، دھرم پر کرتے ہو
کتنا یہاں بکھیڑا ہے
اب تو ایسا لگتا ہے
ہر کوئی مرا لٹیرا ہے
تم سب لے کر بیٹھے ہو
یہاں اپنے اپنے دھرموں کو
کیا مجھ سے بھی پوچھا ہے
یہاں دھرم کیا تیرا ہے
کوئی کہتا میں سکھ ہوں
کوئی ہندو، مسلمان
میں ہوں ہندوستان
میں ہوں ہندوستان
ہر مذہب کے لوگ یہاں
میں اس لئے مہاں

ارشاد عاطف احمد آباد



[Read This Post On RKI Website](#)